

Niyat (Intention) for Fasting:

(can also be made in one's own language)

اللهم اصوم غد لك فاغفر لي ما قدمت وما آخرت

Transliteration:

Allahumma Asumu-Ghadan Laka Faghfiri
Makaddamtu Wama- Akhartu

Meaning

O Allah for thy glory do I fast, forgive me
(I implore) for all my sins'

Prayer at breaking the Fast :

(Alternatively in own language)

اللهم لك صمت وبك امنت و عليك
توكلت و على رزقك افطرت فتقبل مني

Transliteration :

Alluhmma Laka - Sumtu Wa-Bika- Amantu Wa-Alaika-
Tawakkaltu Wa - Ala Rizkika Aftartu Fatakabbal- Minni

Meaning:

O Allah for Thy glory have I fasted.
I have believed and entrusted myself to Thee,
& I break my fast with the provision from Thee,
thus accept from me my fast'

**TO KEEP FAST IS THIRD
AND VERY IMPORTANT
PILLAR OF ISLAM**

DISLIKES OF FAST :- (UNPLEASANT THINGS)

1. TO APPLY TOOTH PASTE OR POWDER.
2. TO GATHER AND SWALLOW SALIVA IN MOUTH.
3. TO TASTE SOMETHING
4. TO TOUCH WIFE WITH SEXUAL DESIRE
5. TO BACKBITE

FOLLOWING BREAK FAST BUT NEED QAZA ONLY:

(1) TO EAT , DRINK SOMETHING THINKING THERE IS STILL TIME FOR SEHRI, (2) TO BREAK ROZA THINKING SUN HAS SET WHEREAS IN FACT IT HAS NOT. (3) IF WATER GOES DOWN THE THROAT DURING MOUTH WASH. (4) IF TOOTH PASTE OR POWDER GOES DOWN THE THROAT. (5) BY VOMITING MOUTH FULL DELIBERATELY OR BY SWALLOWING THE CONTENTS OF EXPULSION INSTEAD OF VOMIT. (6) TO PUT MEDICINE IN EAR OR NOSE OR INHALE SMOKE.

FOLLOWING BREAK FAST AND NECESSITATE QAZA AND KAFFARA:

KEEP 60 ROZAH CONTINUOUSLY IF UNABLE FEED 60 POOR PEOPLES. TO EAT, DRINK OR HAVE SEXUAL INTERCOURSE DURING ROZAH DELIBERATELY.

FOLLOWING DO NOT AFFECT FAST:

(1) TO EAT, DRINK BY MISTAKE OR USE MISWAK. (2) VOMITING ON ITS OWN. (3) TO HAVE INJECTION OR APPLY SURMA. (4) TO USE HAIR OIL OR ATTAR.

SIX SUNNATS DURING RAMADAN :

- (1) TO HAVE SEHRI
- (2) TO BREAK ROZAH IMMEDIATELY AFTER SUNSET.
- (3) TO PERFORM TARAWEEH.
- (4) TO INCREASE THE READING OF QURAN.
- (5) TO FEED THE POOR AND NEEDY
- (6) TO OBSERVE AN ETEKAF DURING LAST TEN DAYS OF RAMADAN.

PLEASE DON'T DO DURING MONTH OF RAMADAN :

- (1) DON'T SPEAK WITHOUT PURPOSE
- (2) DON'T TELL LIES
- (3) DON'T BACKBITE
- (4) DON'T ARGUE AND FIGHT
- (5) DON'T SWEAR
- (6) DON'T EAT DOUBTFUL FOOD
- (7) DON'T LOOK AT UNDESIRABLE THINGS.
- (8) DON'T LISTEN TO OBJECTIONAL SPEECH
- (9) DON'T GOSSIP
- (10) DON'T COMMIT ANY SIN.

Eid Salah Timings:

1st Salah - 7am

2nd Salah - 8.30am

3rd Salah - 10am

FITRANA £5.00 (Per Head)

2025 - RAMADAN TIME TABLE - 1446H

RAMADAN	DAY	MAR 2025	END OF SEHRI	IFTAR TIME
1	SAT	1	5:11a	5:43p
2	SUN	2	5:09a	5:45p
3	MON	3	5:07a	5:47p
4	TUE	4	5:05a	5:48p
5	WED	5	5:03a	5:50p
6	THUR	6	5:01a	5:52p
7	FRI	7	4:59a	5:54p
8	SAT	8	4:57a	5:55p
9	SUN	9	4:55a	5:57p
10	MON	10	4:52a	5:59p
11	TUE	11	4:50a	6:00p
12	WED	12	4:48a	6:02p
13	THUR	13	4:46a	6:04p
14	FRI	14	4:44a	6:06p
15	SAT	15	4:42a	6:07p
16	SUN	16	4:39a	6:09p
17	MON	17	4:37a	6:11p
18	TUE	18	4:35a	6:12p
19	WED	19	4:33a	6:14p
20	THUR	20	4:31a	6:16p
21	FRI	21	4:29a	6:17p
22	SAT	22	4:26a	6:19p
23	SUN	23	4:24a	6:21p
24	MON	24	4:21a	6:22p
25	TUE	25	4:19a	6:24p
26	WED	26	4:16a	6:26p
27	THUR	27	4:14a	6:28p
28	FRI	28	4:11a	6:29p
29	SAT	29	4:09a	6:31p
30	SUN	30	5:03a	7:34p

روزہ کے لئے ضروری چیزیں:

(۱) رمضان کے روزے کی نیت کا ہر رات طلوع فجر کے وقت یا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ (۲) طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور مضطرات (جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے) سے رکے رہنا۔

لیلۃ القدر:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے یہ قرآن عزت والی رات (لیلۃ القدر) میں اتارا، تمہیں کیا پتہ کہ یہ عزت والی رات کیا ہے۔ یہ عزت والی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ اور صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ (سورہ القدر)۔ لیلۃ القدر ۲۱ ویں، ۲۲ ویں، ۲۳ ویں، ۲۴ ویں، ۲۵ ویں اور ۲۶ ویں راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے پورے ایمان و خلوص سے لیلۃ القدر عبادت میں بسر کی۔ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (بخاری)

نماز تراویح:

تراویح کی نماز سنت موکدہ ہے جو مسلمان نماز تراویح خلوص ایمان سے اور آجرت کی نیت سے پڑھے گا۔ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

اعتکاف:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم) اعتکاف مسنون ہے۔ ۲۰ رمضان کو غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک محض اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر عبادت میں مصروف رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔

صدقہ فطر:

ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جس کے پاس اس کے اور اس کے عیال کے لیے عید کے دن اور رات کے خرچ سے زائد ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی زکوٰۃ امت پر فرض (واجب) کی تاکہ وہ ان بے کار اور بے حیائی کی باتوں سے جو روزہ دار سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ (ابوداؤد)

مقدار: دو سیر گندم کے آٹے کی قیمت کے برابر رقم صدقہ کرے، بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔

عمید الفطر: عید انعام کا دن ہے۔ اور دو رکعت نماز واجب ہے۔ اس دن غسل کرنا، خوشبو لگانا۔ اور اچھے کپڑے پہننا، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے۔

رمضان المبارک

قرآن اور رمضان:

قرآن حکیم اسی مہینے میں اترا، جو تمام انسانوں کے لئے نور ہدایت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اتنے اور ایسے معجزے دیئے گئے جن کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لاسکے ہوں اور مجھے جو (اہم ترین) معجزہ دیا گیا وہ تو وہی کلام الہی (یعنی قرآن) ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے۔ (بخاری)۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ بہترین انسان ہے۔ (بخاری)

روزہ اور اس کی اہمیت:

روزہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجز آخرت کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (متفق علیہ)۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو۔ اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا۔ وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے سز فرض ادا کئے۔ (مشکوٰۃ)۔ انسان کے ہر عمل خیر کا اجر دس گنا سے سات سو گنا تک ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا (جتنا چاہوں گا) بدلہ دوں گا (آخر) انسان اپنی شہوت نفسی اور اپنا کھانا پینا میری ہی خاطر تو روکے رہتا ہے۔ (مسلم)۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ (مشکوٰۃ)

اس ماہ کے آداب:

(۱) سحری کھانا (۲) سورج ڈوبتے ہی افطار کرنا۔ (۳) روزے کی حالت میں اور افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ (۴) مسواک کرنا۔ (۵) غلط باتوں سے دور رہنا۔ (۶) صدقات و خیرات کرنا۔

(۷) آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔

تین عشرے:

پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔

روزے کے مسائل:

روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھانے پینے سے، دن کے وقت احتلام ہو جانے سے، سرمہ لگانے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے، ٹیکہ لگانے سے، بالوں میں تیل ڈالنے سے، خوشبو لگانے یا سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود دتے ہو جانے سے، مسواک کرنے، پیسٹ کے بغیر برش پھیرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر کتے کرنے اور روزہ کی حالت میں روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے قضا واجب ہو جاتی ہے۔ کلی کرتے وقت حلق میں پانی جانے، جان بوجھ کر کنکر، پتھر، لوہا، شیشہ وغیرہ جیسی چیز کھانے سے، جو غذا یا دوا کے طور پر نہیں کھائی جاتی۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا مگر غلطی سے سمجھا کہ ابھی باقی ہے، افطاری کا وقت نہیں ہوا مگر غلطی سے سمجھا وقت ہو گیا اور کھاپی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اس کے بدلے روزہ رکھے۔ جان بوجھ کر کھانے پینے اور جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ساٹھ دن لگاتار بلا ناغہ روزہ رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دو سیر گندم یا اس کی قیمت فی کس کے حساب سے ساٹھ مسکینوں کو ادا کرے۔ مریض و مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے۔ البتہ چاہے یکشت پورے ماہ کا یا ایک روزانہ ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر رقم یا کھانے کا سامان دینا واجب ہے۔

حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی رخصت ہے اور صرف روزے کی قضا واجب ہے۔ ایام ماہواری اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اور صرف قضا واجب ہے۔

Please donate generously towards the House of Allah

Account Details:

**Jamiat-ul-Muslemeen
Quwat-ul-Islam Masjed**

Sort Code: 20-23-97

Bank Account : 90295299